



## اے یزید! تجھ کو (اجر و ثواب) ملے گا جس کی تو نے نیت کی اور اے معن! وہ تیرا ہے جو تو نے لیا ہے

معن بن یزید بن احنس رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ میرے والد یزید نے چند دینار صدقہ کے لیے نکالے اور انہیں مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا۔ میں آیا تو میں نے ان کو لے لیا اور انہیں لے کر اپنے والد کے پاس آیا۔ میرے والد نے کہا کہ اللہ کی قسم! میرا تجھ کو دینے کا ارادہ نہ تھا۔ چنانچہ میں نے مقدمہ رسول اللہ کے پاس لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: ”اے یزید! تجھ کو (اجر و ثواب) ملے گا جس کی تو نے نیت کی اور اے معن! وہ تیرا ہے جو تو نے لیا ہے“

[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

یزید بن احنس رضی اللہ عنہ نے کچھ درہم نکال کر مسجد میں موجود ایک شخص کے پاس رکھ دیے تاکہ وہ اسے فقرا کو بطور صدقہ دے دے۔ اتنے میں ان کا بیٹا آیا اور اس نے وہ درہم لے لیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ یہ درہم بطور صدقہ تجھے دوں۔ اس پر وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی نے فرمایا: ”اے یزید! تجھ کو مل جائے گا جس کی تو نے نیت کی کیونکہ تو نے صدقہ مسلمانوں کے فقرا میں سے ایک فقیر شخص تک پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ تمہاری نیت کے مطابق تمہارا لیا ہوا اجر واجب ہے۔ چکا ہے اور اے معن! تو نے جو کچھ لیا ہے وہ تیرا ہے کیونکہ تو نے صحیح طریقہ سے اسے حاصل کیا ہے۔ یزید بن احنس کے بیٹے اس صدقہ کے مستحقین میں سے تھے۔“

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4719>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

